

سوال

بہرمانی 11۔

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے یہ بزمائی تھی کہ اگر میرے پاؤں کا درد کم ہو جائے تو میں دس رکعات نماز پڑھوں گا۔ تو کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں روزانہ دو رکعت کر کے پانچ دنوں میں دس رکعتیں پڑھ لوں یا یہ واجب ہے کہ ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں اکتالیس دس رکعتیں پڑھوں۔ رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ سے

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہا

جائے یعنی پاؤں کا درد کم ہو جائے تو آپ کے لئے نذر کو فوراً پورا کرنا واجب ہے۔ لہذا آپ کسی ایسے وقت میں جو ممنوع نہ ہو دس رکعات اس طرح پڑھیں کہ ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ "رات اور دن کی نماز دو رکعت ہے۔" اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے

[فتاویٰ ابن باز](#)